

## 151447- کتوں پر تحقیقات و ریسرچ اور کتوں کے DNA کو ہاتھ لگانے کا حکم

سوال

سوال: کیا کوئی مسلمان کتے کے خلیہ اور DNA کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ میں کوریا میں زیر تعلیم ہوں، یہاں پر کتے کے خلیوں کو کتے میپائی جانے والی پروٹین پر تحقیق کیلئے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟

پسندیدہ جواب

کتوں پر تحقیق، تجربے، اور ریسرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کیلئے کتوں کو ہاتھ لگانا پڑے، یا کتوں کے کچھ اعضا کو چھونا پڑے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ شریعت میں صرف کتوں کو بلاوجہ پالنے سے منع کیا گیا ہے۔

تاہم جس شخص کو کتے کے کچھ حصوں کو چھونا پڑے تو وہ اپنے متاثرہ حصے کو سات بار دھوئے، جن میں سے پہلی بار دھوتے وقت مٹی استعمال کرے؛ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (تمہارے کسی برتن کو کتا منہ لگا دے تو اس کو پاک کرنے کیلئے سات بار دھوئے، پہلی بار دھوتے ہوئے مٹی استعمال کرے) مسلم: (279)

نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"یہ بات ذین نشین رہے کہ کتے کے منہ اور دیگر اعضا میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ اگر کتے کا پیشاب، لید، خون، پسینہ، بال، لعاب یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی پاک شے کو لگ جائے، اور یہ پاک شے یا اُن نجس اشیا میں سے کوئی ایک حالتِ رطوبت میں ہو تو اس پاک شے کو سات بار دھونا لازم ہو جائے گا، جس کیلئے پہلی بار دھوتے وقت مٹی کا استعمال کیا جائے گا" انتہی

"شرح صحیح مسلم" (3/185)

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"کتے کو چھونے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کتے کو خشک ہاتھ لگیں تو اس سے وہ پلید نہیں ہوں گے، اور اگر رطوبت کی حالت میں ہاتھ لگے تو اس سے متعدد اہل علم کے ہاں ہاتھ نجس ہو جائے گا، اور اسے ساتھ ساتھ بار دھونا واجب ہوگا، جس میں ایک بار مٹی کا استعمال کیا جائے گا" انتہی

"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (11/246)

اور کتے کے پاک یا پلید ہونے کے بارے میں اختلاف کا ذکر علمائے کرام کی آراء سمیت سوال نمبر: (69840) کے جواب میں گزر چکا ہے۔

شافعی، اور حنبلی مذہب کے مطابق کتا نجس ہے، اسی کو دائمی فتویٰ کمیٹی نے اختیار کیا ہے، چنانچہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ: (23/89) میں ہے کہ: "کتا پورے کا پورا نجس ہے، اس کا لعاب وغیرہ سب نجس ہے" انتہی

واللہ اعلم.